



Decision

✎ Ursula Nafula

👤 Vusi Malindi

💬 Samrina Sana

📊 2

🗣️ اردو [ur](#) / English [en](#)



میرے گاؤں میں بہت سے مسائل تھے۔ ہم نے ایک نل سے پانی
بھرنے کے لیے ایک لمبی قطار بنائی۔

...

My village had many problems. We made a
long line to fetch water from one tap.



ہم نے دوسروں کی طرف سے عطیہ کیے گئے کھانے کا انتظار کیا۔

...

We waited for food donated by others.



چوروں کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو جلدی بند کر لی۔

...

We locked our houses early because of thieves.

بہت سے بچے سکول سے نکل دیئے گئے۔

...

Many children dropped out of school.






نوجوان لڑکیوں نے دیگر گؤں میں نوکرانی کے طور پر کام کیے۔

...

Young girls worked as maids in other villages.



نو جوان لڑکے گؤں کے ارد گرد گھومے جبکہ بقی لو گوں نے
کھیت میں کام کیے۔

...


Young boys roamed around the village while
others worked on people's farms.



جب ہوا چلی فالتو گند درختوں اور جنگلوں پر لٹک گئے۔

...

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.



بے احتیاطی سے پھینکے گئے ٹوٹے کانچ کی وجہ سے لوگوں کو
چیر آگئے۔

...

People were cut by broken glass that was
thrown carelessly.



اور ایک دن نل سوکھ گچ اور پھرے برتن خلی ہو گئے۔

...

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.



میرے ڈپ نے گھر گھر ج کے لوگوں کو گؤں کے اجلاس میں
شرکت کرنے کے لیئے کھ۔

...


My father walked from house to house asking
people to attend a village meeting.



لوگ بڑے درخت کے نیچے جمع ہوئے اور انہوں نے سُنا۔

...


People gathered under a big tree and listened.



میرے والد کھڑے ہو گئے اور کہے، 'ہمیں اپنی مشکلات کو حل
کرنے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔'

...

My father stood up and said, "We need to
work together to solve our problems."



ایک درخت پر بیٹھے آٹھ سالہ جمعہ نے کہا، 'میں صھائی میں مدد
کر سکتا ہوں۔'

...


Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk
shouted, "I can help with cleaning up."



ایک عورت نے کہ، 'خواتین کھنے میں اضافہ کرنے میں شمولیت
اختیار کر سکتی ہیں۔'

...

One woman said, "The women can join me to
grow food."



ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہہ کر مرد کنواں کھودیں گے۔

...

Another man stood up and said, "The men will dig a well."



ہم سب نے ایک آواز سے کہہ، ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا
ہوگا۔ اس دن سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہاتھ مل
کر کام کیا۔

...

We all shouted with one voice, "We must
change our lives." From that day we worked
together to solve our problems.




Global Storybooks

globalstorybooks.net

فيصله

Decision

 Ursula Nafula

 Vusi Malindi

 Samrina Sana (ur)

